

48 گھنٹے

میں اکاؤنٹ کھولائیں

اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ

- 1- اکاؤنٹ کھولنے کیلئے نیچے دکھائے گئے بینکوں میں سے کسی ایک کو منتخب کریں۔ آپ براہ راست ان بینکوں کی ویب سائٹ پر بھی جاسکتے ہیں یا ہمارے ویب پیج پر دیے گئے ان بینکوں کے لنک سے بھی مدد لے سکتے ہیں <https://www.sbp.org.pk/RDA/index.html>
- 2- ڈیجیٹل طور پر اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کو پُر کرنے کے لیے منتخب بینک کی ویب سائٹ پر جائیں۔
- 3- ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی نوعیت منتخب کریں۔ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ یا پاکستانی روپیہ اکاؤنٹ۔
- 4- اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو کم از کم درج ذیل دستاویزات کی اسکین شدہ نقول اپ لوڈ کرنے کی ضرورت ہوگی
- الف) قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ / قومی شناختی کارڈ برائے اور سیز پاکستانی / پاکستان اور بجن کارڈ
- ب) پاسپورٹ (پاکستانی اور / یا غیر ملکی)
- ج) غیر مقیم حیثیت (Non-resident status) کا ثبوت
- د) آئی آر ایس ایف ایس اے ٹی سی اے (IRS FATCA) فارم (صرف امریکہ میں مقیم صارفین کے لیے)
- ه) پیشے اور آمدنی / رقم کے حصول کے ماخذ کا ثبوت۔ مثلاً درج ذیل دستاویزات میں سے کوئی ایک:
 - تنخواہ دار افراد کے لیے: ایمپلائمنٹ لیٹر، سیلری سلپ یا بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
 - کاروباری افراد کے لیے: کاروباری رجسٹریشن کے کاغذات، بزنس لیٹر ہیڈ یا بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
- 5- آپ سے ایک ڈیجیٹل تصویر طلب کی جائے گی جو فارم پُر کرنے کے وقت لی جائے گی اور براہ راست اپ لوڈ کی جائے گی۔
- 6- اکاؤنٹ کھلنے کی تصدیق ای میل 48 گھنٹوں میں موصول ہو جائے گی۔
- 7- اکاؤنٹ کھلنے کے بعد، آپ اپنے رہائشی ملک سے بینکنگ چینلز کے ذریعہ اکاؤنٹ میں رقم منتقل کر سکتے ہیں۔



دور رہ کر بھی پاس

An Initiative of State Bank of Pakistan



www.sbp.org.pk



روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں مزید معلومات یا سوالات کیلئے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔

RDASupport@sbp.org.pk

اسٹیٹ بینک آف پاکستان، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی پاکستان
یو ایس این نمبر 111-727-111 www.sbp.org.pk

Updated till 30-01-2023





پاکستان میں بینکاری کا نیا دور

روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، پاکستان میں کام کرنے والے کمرشل بینکوں کے اشتراک سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک اہم اقدام ہے۔ یہ اکاؤنٹس لاکھوں غیر مقیم پاکستانیوں (این آر پیز) کے لیے بینکاری کے جدید اختراعی حل فراہم کرتے ہیں جو پاکستان میں بینکاری، ادائیگی اور سرمایہ کاری کی سرگرمیاں انجام دینے کے خواہاں ہیں۔

لائف اسٹائل بینکاری

روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس طرح بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان کے بینکاری اور ادائیگی کے نظام سے مکمل طور پر منسلک کرے گا:

- فنڈز کی منتقلی، بلوں اور فیسوں کی ادائیگیوں، اور ای کامرس سمیت تمام روایتی اکاؤنٹ سروسز تک ڈیجیٹل رسائی کی فراہمی۔
- حکومت پاکستان کی جانب سے نہایت پُرکشش، خطرے سے پاک شرحوں پر، ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، یورو اور پاکستانی روپے میں جاری کیے جانے والے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس (این پی سیز) میں غیر مقیم پاکستانیوں کو روایتی اور شریعت سے ہم آہنگ طریقوں میں سرمایہ کاری کے قابل بنانا۔ این پی سی کے منافع پر صرف اور صرف 10 فیصد وہولڈنگ ٹیکس عائد ہوگا۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مقیم پاکستانی، جو بیرون ملک اپنے اثاثے ایف بی آر میں ظاہر کر چکے ہیں، وہ بھی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، اور یورو کی مالیت والے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ پاکستان میں کسی بینک کی برانچ جا کر فارن کرنسی میں اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا سکتے ہیں۔

سالانہ شرح منافع (فیصد)

سہ ماہی	شش ماہی	سالانہ	3 سالہ	5 سالہ
7.00	7.00	7.00	7.50	7.50
7.25	7.25	7.25	7.50	7.50
5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
13.50	13.50	13.00	12.50	12.50

نوٹ: اسلامی نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کے لیے منافع کی حقیقی شرحوں کا تخمینہ متعلقہ مہینے کے حقیقی مالی اعداد و شمار کی بنیاد پر مضاربہ کے اسلامی اصولوں کے مطابق لگایا جائے گا۔

- پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں بولی کردہ حصص اور فنڈز کے یونٹس میں سرمایہ کاری کے قابل بنانا۔
- میویٹل فنڈز (اوپن اینڈ اسکیموں) میں سرمایہ کاری کرنا
- پاکستانی پراپرٹی مارکیٹ، بشمول کمرشل اور رہائشی رینٹل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے مواقع دستیاب ہیں۔
- نان ریز پڈنٹ پاکستانی اب پاکستان میں بینکوں سے پُرکشش نرخوں پر روایتی یا شریعت سے ہم آہنگ طریقے سے پراپرٹی کی خریداری کے لئے قرضے حاصل کر سکتے ہیں
- نان ریز پڈنٹ پاکستانیوں کو پاکستان میں اپنے عزیزوں کے لیے پُرکشش شرحوں پر بینک فنانسنگ کے ذریعے روشن اپنی کارسہولت کے تحت اپنی مرضی کی کار حاصل کرنے کے قابل بنانا۔
- ایک باسہولت ون اسٹاپ ادائیگی پلیٹ فارم کے ذریعے روشن سماجی خدمت کے تحت پاکستان میں خیراتی اداروں کو عطیات یا زکوٰۃ دینے کی سہولت فراہم کرنا۔

فارن کرنسی اور پاکستانی روپے دونوں میں اکاؤنٹس دستیاب

صارف فارن کرنسی یا روپیہ مالیت والے اکاؤنٹس میں سے کسی ایک، یا دونوں کا انتخاب کر سکتا ہے۔ این آر پیز کے لیے یہ اکاؤنٹس interoperable ہوں گے اور فارن کرنسی سے پاکستانی روپوں میں اور پاکستانی روپے سے فارن کرنسی میں رینٹل ٹائم آن لائن تبادلے کے قابل بنائیں گے۔

مکمل طور پر منتقلی کے قابل

اسٹیٹ بینک یا متعلقہ بینک سے کوئی بھی منظوری کے بغیر اکاؤنٹ میں موجود فنڈز پاکستان سے واپس بھیجے جاسکتے ہیں۔

نیا پاکستان سرٹیفکیٹس

نیا پاکستان سرٹیفکیٹس (این پی سیز)، ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، یورو اور پاکستانی روپے میں جاری کیے جانے والے ریاستی آلات ہیں جنہیں حکومت پاکستان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کیلئے جاری کرتی ہے۔ مقیم پاکستانی، جو بیرون ملک اپنے اثاثے ایف بی آر میں ظاہر کر چکے ہیں، وہ بھی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، اور یورو کی مالیت والے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کیلئے وہ پاکستان میں کسی بینک کی برانچ جا کر فارن کرنسی میں اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا سکتے ہیں۔



مختلف میعادیں

6.3 اور 12 مہینے: 5.3 سال
جلد نقد کرائے کی اجازت



اسپیٹل سرٹیفکیٹس

امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، یورو اور پاکستانی روپے کے بلز، جنہیں وزارت خزانہ جاری کرتا ہے، اور جن کا انتظام اسٹیٹ بینک کرتا ہے۔



سادہ ٹیکس

ٹیکس فائلنگ کی ضرورت نہیں
صرف 10 فیصد وہولڈنگ ٹیکس



نہایت پُرکشش

خطرے سے پاک منافع

امریکی ڈالر: 7.50, 7.50, 7.25, 7.25, 7.25 فیصد
برطانوی پاؤنڈ: 7.50, 7.50, 7.25, 7.25, 7.25 فیصد
یورو: 5.25, 5.25, 5.25, 5.25, 5.25 فیصد
پاکستانی روپیہ: 12.50, 12.50, 13.00, 13.50, 13.50 فیصد (سالانہ)



مکمل طور پر قابل منتقلی

فنڈز کی بیرون ملک ترسیل کے لیے منظوری درکار نہیں



شریعت سے ہم آہنگ

روایتی اور شریعت سے ہم آہنگ دونوں سرٹیفکیٹس دستیاب ہیں



مکمل طور پر ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنا اور اس کے افعال

پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، این آر پیز کو کسی بینک کی برانچ میں جانے بغیر دور رہتے ہوئے مکمل طور پر ڈیجیٹل اور آن لائن پراسس کے ذریعے پاکستان میں اکاؤنٹ کھولنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے چند بنیادی معلومات اور دستاویزات ہی درکار ہوں گی۔ بینکوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صارفین کی ضروری مستعدی (due diligence) کے عمل کو 48 گھنٹوں کے اندر مکمل کریں۔